



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 29/12/2022

گورنر HOCHUL نے ریاست نیو یارک کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کے امدادی ایکٹ پر دستخط کر دیے

مسودہ قانون (S.1594/A.146A) نیو یارک ریاست کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کو عطیہ کے نتیجے میں ہونے والے اخراجات کے لیے ریاستی معاوضہ فراہم کرتا ہے

گورنر Kathy Hochul نے آج مسودہ قانون (S.1594/A.146A) پر دستخط کر دیے ہیں، جو ریاست نیو یارک کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کے امدادی ایکٹ کو نافذ کرنے والا، ملک کا پہلا ریاستی پروگرام ہے جو افراد کو گردے اور جگر کے عطیات کے اخراجات کی ادائیگی کی اجازت دیتا ہے۔

گورنر Hochul نے کہا، "نیو یارک کا کوئی مکین زندگی بچانے کے تحفے سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اعضاء عطیہ کرنے والے زندہ انسان حقیقی ہیرو ہیں، اور اس قانون سازی کے ساتھ، ہم ان کی قربانی کی حمایت اور ان کی جان بچانے کے لیے بامعنی اقدامات کر رہے ہیں۔"

مسودہ قانون (S.1594/A.146A) "ریاست نیو یارک کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والے افراد کے امدادی ایکٹ" کو نافذ کرنے کے لیے صحت عامہ، ٹیکس، اور سماجی خدمات کے قوانین میں ترمیم کرتا ہے جو نیویارک کے اعضاء کے عطیہ سے منسلک اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک پروگرام قائم کرے گا جو نیو یارک کے مکین اپنے ایک ساتھی کو عطیہ کرتے ہیں۔ یہ اعضاء کے عطیہ میں مالی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کارگر ہے تاکہ اعضاء کی پیوند کاری کے انتظار کے اوقات کو کم کیا جاسکے اور نیو یارک میں اعضاء کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔

اس قانون سازی کا مقصد اعضاء کے عطیہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد دینا ہے، تاکہ ریاستوں میں اعضاء کے عطیہ میں نیو یارک کو اس کے نچلے درجے سے اوپر لایا جاسکے۔ اس وقت اعضاء کی [بیوندکاری کے منتظرین کی فہرستوں](#) میں 8,569 افراد ہیں جن میں سے 7,234 گردے کے منتظر ہیں۔

ریاستی سینیٹر Gustavo Rivera نے کہا، "میں اپنے مسودہ قانون، ریاست نیو یارک کے اعضاء عطیہ کرنے والے زندہ افراد کے امدادی ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون بنانے پر گورنر Hochul کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مالی رکاوٹوں کو دور کر کے اور نیو یارک کے مکینوں کو زندہ اعضاء کے عطیہ کے بارے میں تعلیم دے کر، یہ اہم کوشش نیو یارک کے اعضاء کے عطیہ دہندگان کی رجسٹریشن کی کم شرح کو واپس لانے میں مدد کرے گی، جہاں ہم قومی سطح پر تقریباً آخری نمبر پر ہیں۔ اعضاء کے عطیہ دہندگان بننے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والوں کے لیے وسیع امداد کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ یہ نیا قانون نیو یارک کے مزید لوگوں کو زندگی کا تحفہ دینے اور وصول کرنے میں مدد دے گا۔"

رکن اسمبلی Richard Gottfried نے کہا، "زندہ عطیہ دہندگان، جیسے کہ ایک گردہ عطیہ کرنے والے لوگ، ہمارے شکریے اور تعاون کے حق دار ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنا کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ طبی اخراجات اور آمدنی سے محروم نہ ہوں۔ میں گورنر Hochul کا اس بل پر دستخط کرنے کے لیے اور اعضاء کے

عطیات کے حامیوں، سپیکر Heastie، اکثریتی رہنماء Stewart-Cousins، اور سینیٹ کے کفیل Gustavo Rivera کا اس کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418